


بچوں کے لئے بائبل
تحائف

پائین حاران کرن
وول سفر



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Janie Forest
Alastair Paterson

کے مطابق: Ruth Klassen

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org



©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



يسوعَ هني زِ خدمتِ گار، پال تہ سيلاس، اُس
جیلس منز۔ نہ، تمو اوس نہ کینہہ تہ غلط کورمٹ۔
تمو اوس اکھ دیو اُکس زنانہ منز نیبر کورمت۔ تمو
ہاؤو تمن پوتلین عبادت کرن وایلن لوکن یمی فلیپی
پیٹھ روزان اُس، خدا تہ تمہ سندس گوبری سند پوز
طاقتہ۔ تمہ سبہ آبی تم گرفتار کرنہ، کوڑ دنہ، تہ
جیلس منز بند تھاونہ۔






توہی ما اُسی ہے تَوَقَّعِ پِلَسّ تہِ
سیلاسّ اُسہے شرارت تہِ
ژاکھ گھڑمڑ۔ مگر تَمَن اُس نہِ
کینہہ۔ حَقِیقَتَن، تِم بیٹھی
نصب راژ خدایہ سَنَدِ حَمْدِوَتْنَأ
گہوان! ساروئے باقے قیدہو تہِ
جیل کپو حا کیمو بوز۔



اچانک، سہ گہون گُو بند۔ خدایہ سوز اکھ پُئل قَادِ خانیس آلہ ڈَلہ کرنہ باپتہ۔
ساری دروازِ گیہ یلہ۔ ہر کانسہ ہنز زنجیری گیہ یلہ۔





او۔ او! جیلکس افسرس اوس
یقین شورش منز اسن ساری
قادی ژلمتی۔ اگر کانہ ژلیہے،
قاد خانہ کس افسرس اوس
موتک سزا یوان دینہ۔ پریشانی
منز، تمی بچاری جیلکہ افسرن
کڈ پنی تلوار نیبر۔ سہ مارے
پنس پانس تہ گڑھے آزاد۔



مگر پالنّ دڙس کريکھ، "مه کر پانس
نقصان، اسي ساري چه یتی"۔ يیلہ تم
جیلک افسرن تہ وچھ، تمی وون،
"جنابو، میہ کیاہ چھ کورن یمہ ستری بہ
بچاؤ پان؟" تیتھ پیٹھ وونس تمو،
"خدایہ یسوع ہس پیٹھ کر یقین، تہ ڙ
یکھ بچاؤنہ، ڙ تہ چون خاندان تہ" تمی
جیلک افسرن کور خوشی سان یقین۔





دُوئِمى دوه آيه يله تراؤنه، پلن ته
سيلاسن كور واريهن باقى شهرن هند
سفر، لوكن رودي يسوع هس متلق ونان -
كيترو لوكو كور يقين، باقى لوكو كر
يمن زخ واته ناؤنچ كوشش - مگر خدا
اوس پن خدمت گارن ستر - اڪس
راژ، پال اوس واريهن گهنن تبليغ
كران - اڪس نوجوانس پيه نيندر يس يله
دار نزيك بهته اوس - توهي بيكوا انداز
كريته كياه واقع سپد -



ہر کائہہ اوس زنان سہ شخص

اوس مودمت۔ مگر پال ووتہ

بون تہ نالہ موت کریتہ وونس،

"امہ سنز زندگی چہ اوس منز۔"


تمو کور سہ نوجوان شخص

زند، تہ تمی گیہ واریاہ خوش۔



پالنّ تہ سیلاسَن کر واریاہ کارنامہ ییلہ تمو یورپکہ سفر کور۔ پالنّی اکھ ساروئے
کھوتہ بوڈ کارنامہ گوو واقع ییلہ سہ اکس جہازس منز اوس۔ تم اُس نہ فولادی
سمندری مسافر جہازِ آسان کینہہ، مگر بادبان
وَأَجْنِي نَأُو، يَمِ طوفانی موسمس منز اورپور
لاينہ یوان آسہ۔







پال اوس اٿھ جھازس منز تڪياز سھ اوس آمت دُبارِ گرفتار ڪرِ نہ۔ وونی
اوس ٿمس رومس منز شھشاهس برونھ ڪنی پیش گڙھن، دُنی یاہچہ
راجدانی ہند شھر۔ تیز واون ڪرِ تمی جھازچہ رفتار ڪم۔ یہ اوس باسان
برونھ ڪنُ آسہ طوفانی موسم۔ یہ اوس پالَس تہ تِمن باقے قیدین ہندِ
باپتھ مشکل سفر، بیہ جھاز ڪہ باقے عملہ خاطر تہ۔



پالنَ کرِ خبردار، "میہ چُھ باسانِ زیہِ سمندری
سفر گڑھی ختمِ حادِثہِ ستی"۔ جہازک سربراہن بوز
نہ کینہہ۔ تم گیہ سمندرس کن۔ ییلہ اکہ بڈ
طوفاننِ تمنِ ٹاس دیت، تمو گنجہ تہہ جہازس رز
اندی اندی یہ وومید تہاوتہ زیہ
بچاویہ اتہ پھینہ نشی۔ اگر یہ
پھٹی، یہ اُسہرے تمن سارنی
ہندی خاطرِ ایچِ قبر۔




تته جهازس اوس طوفان تيوتاه هلاون ز جهازک سربرابن ديت هر کانسې حکم جهاز
لوژ راونه باپته مدد کر نوکه. - تريمه دوپه تراو تمو سامان جهاز منر بون. - شايد سه ما
کر بيکه مدد.



تہ راژ دوران، اکھ ملایکہ گوو پالس نکہ استاد گڑھتہ گوس ونان تم چیز یمو
ستی سورے ٹھیکہ گڑھہ ہے۔ بیلہ پالن وون، تمن باقین گیہ حوصلہ افزائی، "انسانو،
دل تهاؤو ڈنجہ، اتہ پیٹھ چھ میہ خدایس پس پیٹھ یقین ز تیئ
سپدی یہ میہ وونہ او۔ بہر حال، اسی پڑی جہاز اکس
خاص خشک جزیرس کن نین۔"



کينھہ دوه ڀٽي، سو ناؤ آيه وڏاونه تته مالٽا جزيرس نزديڪ۔ يه ٽڪرايه ٿاڻرن بجهن
ڪنهن سٽي ته گيس ڇهله۔ ٿم جهازڪ سربراهن ڪور حڪم يمن سرانٿه ٿگان چهه
تم تراون گوڏ ووڻه ته ڪهسپن خشڪي ڪن۔ تم باقري
ته ڙاله حفاظت سان، کينھه لڪري بندين تختن پيڻه ته
کينھه جهازچني فٽي مپتن ٽڪرن پيڻه۔



مالتاہس پیٹھ ہُوو خداین پَنن طاقتھ۔ ییلہ تِم نار
زألنہ خاَطِرِ لُکِرِ اَس جمع کران، پالسِ دِثِرِ اکہ
زہریلہ سرفن ٹوپھ۔ لُوکو سونچہ یہ مَر۔ مگر
سرفہ سنزِ ٹپہ ستی ووت نہ تمس کائہہ نقصان۔
پتہ سونچہ تمو لُوکو پالّ اوس اکہ خد۔ واریاہ
بیمار لُوکھ آبی، پالن کور تہندی خاَطِرِ دُعا
پتہ کور خداین تِمَن شفا۔



آخرڪار، پاڻ ووت روم۔ اندس مقدمس لڳي زوري عدالتس منڙ بوزنس۔ اته وقتس دوران نيٽو پالن آڪه مڪانه ڪرايس پيٽه ته ملاقات ڪرن وولين اوس سمڪهان۔ توهي چها پتاه پاڻ ڪياه اوس پنن ملاقات ڪرن والين وننان؟ خدايه سنڙ بادشاهي!

خداوند يسوع مسيح! پاڻ اوس

رومس منڙ خدا سنڊ خدمت

گار، يتهه پاڻهي سٺه سارنر


سفرن دوران اوس۔



پالن لیکھ رومہ پیٹھ، "میہ لڑاکھ رڑ لڑامے، میہ کور مقابلہ ختم، میہ تھاؤ عقیدہ۔"
کتاب مقدس چھنہ اسی ونان تمہ سنز زندگی کتہ پائھی گیہ ختم، مگر باقیہ درج
کرنہ امت تاریخ چھ ونان پالس آو رومس منز نیرو بادشاہ سندس حکمس پیٹھ
کلہ ژٹنہ۔ پال مؤد تیتھی یتھ سہ زند روڈ۔ خدایہ سند اکھ وفادار خدمت گار، باقیہ

لؤکن اوس یسوع مسیع

بس متلق روزان ونان۔



پالنب حاران کرن وول سفر

خدا كے كلام، بائبل كى ايك كهانى،

مىں پايا جاتا هے

قسط 16، 27، 28

"آپ كے الفاظ كا داخله روشنى بخشا هے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

